

## ROOTWORDS OF SURAH SUAD 1-29

شِقَاقٌ	وَلَاتٌ	مَنَاصٍ	عَجَابٌ	انْطَلَقَ
ش ق ق	ل و ت	ن و ص	ع ج ب	ط ل ق
مخالفت	اور نہ تھی	خلاصی / نجات	عجب	چل پڑے
اَمْشُوا	يُرَادُ	اِخْتَلَقَ	فَلْيُرْتَفُوا	الْأَسْبَابُ
م ش ي	ر و د	خ ل ق	ر ق ي	س ب ب
چلو	جو ارادہ کی جاتی ہے	من گھڑت	پس چاہئے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں	ریاں تان کر
مَهْزُومٌ	الْأَوْتَادُ	فَوَاقٍ	عَجَلٌ	قِطْنًا
ہ ز م	و ت د	ف و ق	ع ج ل	ق ط ط
تکست کھانے والے	مینیں	وقفہ	جلدی کر / دے	ہمارا حصہ
الْأَيْدِ	أَوَابٌ	الْإِشْرَاقُ	مَحْشُورَةٌ	الْخَصْمِ
ا ی د	ا و ب	ش ر ق	ح ش ر	خ ص م
ٹانٹور	رجوع کرنے والا	صبح کو	اکٹھے رہنے والے	جھگڑنے والوں کی
تَسْوَرُوا	الْمُحْرَابِ	فَفَرَعٌ	تَشْطِطُ	نَعْبَةٌ
س و ر	ح ر ب	ف ز ع	ش ط ط	ن ع ج
دیوار پھاند کر آئے	عبادت خانے	تو وہ گھبرائے	بے انصافی / زیادتی	دنیا میں
أَخْلَيْنِيهَا	عَزَبِي	الْخُلَاطِءِ	وَأَنَابٌ	لَزُلْفَى
ک ف ل	ع ز ز	خ ل ط	ن و ب	ز ل ف
میرے حوالے کر دے اسے	غلبہ پایا مجھ پر	شرکت دار	اور رجوع کیا اس نے	البتہ قرب